

7 مارچ 2019

برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم میں پانچ نئے اراکین کو شامل کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن – برامپٹن زندگی کے کئی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے قابل لوگوں سے بھرا پڑا ہے اور اب برامپٹن کے پانچ غیر معمولی رہائشیوں کو ہمارے شہر میں کھیلوں میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔

اس سال ان پانچ افراد کو برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیا جائے گا:

- بلڈر کے زمرے میں ڈیوو ڈوبیرٹی کو برامپٹن میں بیس بال کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات، بشمول برامپٹن مائٹر بیس بال انکارپوریٹڈ میں ان کی 23 سالہ خدمات، کی بنیاد پر شامل کیا جائے گا۔
- ڈان ڈوان کو ہمارے شہر میں کھیلوں کی کمیونٹی کو فروغ دینے کے لیے ان کی خدمات کی بنیاد پر بلڈر کے طور پر شامل کیا جائے گا، بشمول ان کی جانب سے سہولیات کی فراہمی کی حمایت کرنا اور نوجوانوں اور بالغان کے کئی کمیونٹی اسپورٹس گروپس کے مشیر کے طور پر ان کی معاونت۔
- ایتھلیٹ کے زمرے میں، مائیکل حیسن کو لیکروز کے کھلاڑی اور کوچ کے طور پر ان کی کامیابی کے لیے خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔
- مائیکل میکس کو باسکٹ بال میں ان کی کامیابیوں کے اعتراف میں ایک/ایتھلیٹ کے طور پر ہال آف فیم میں شامل کیا جائے گا۔
- روبی ٹیلر کو تیراکی میں ان کی کامیابیوں کے اعتراف میں ایتھلیٹ کے طور پر شامل کیا جائے گا۔

39ویں اینوئل برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم انڈکشن سیریمونی منگل، 14 مئی کو روز تھیٹر برامپٹن میں منعقد ہو گی۔ ایک کوکٹیل ڈنر شام 6 بجے شروع ہو گا، جس کے بعد شمولیت کی تقریب اور استقبالیہ ہو گا۔ اس سال کی کلیدی مقرر ایونکا اوسماک، اسپورٹس نیٹس سنٹرل کی شریک اینکر، ہوں گی۔

روز تھیٹر باکس آفس میں \$55 فی ٹکٹ کی قیمت میں ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے۔ 12 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے ٹکٹ \$27.50 کی ہے اور دو سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے داخلہ مفت ہے۔ اپنی ٹکٹ خریدنے کے لیے www.rosetheatre.ca ملاحظہ فرمائیں یا 905.874.2800 پر کال کریں۔

برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم اور اس سال نامزد کیے جانے والے لوگوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے، آن لائن طور پر www.brampton.ca/bshf ملاحظہ فرمائیں۔

کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، جس نے ہمارے شہر میں کھیلوں کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہو؟ [2020 کے لیے نامزدگی فارم ڈاؤن لوڈ کریں!](#) نامزدگیاں 15 جون 2019 تک قبول کی جائیں گی۔

برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کو 1979 میں کھیلوں کے لیے پر عزم جوشیلے افراد نے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ یہ 7575 کینیڈی روڈ ساؤتھ پر CAA سنٹر میں واقع ہے۔

اقتباسات

"برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی کی جانب سے میں اس سال اسپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیے جانے والے افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں! برامپٹن کھیلوں کے کئی پروگراموں کی پیشکش کرتا ہے اور یہ بات انتہائی قابل قدر ہے کہ شامل کیے جانے والے یہ افراد ہماری کمیونٹی میں رہنما کردار ادا کر رہے ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی کی جانب سے، ہمارے ہال آف فیم میں 2019 میں شامل کیے جانے والے افراد کی کلاس کا اعلان کرنا میرے لیے ایک مرتبہ پھر بہت خوشی کا باعث ہے۔ مئی کے مہینے میں اپنا اعزاز موصول کرنے کے بعد اس سال کی کلاس سابقہ طور پر شامل کیے جانے والے لوگوں کی معزز فہرست میں اضافہ کرے گی۔ تمام نئے شامل ہونے والے لوگوں کو برامپٹن میں کھیلوں کے لیے ان کی انفرادی خدمات پر مبارکباد۔"

- ڈین مک لیوڈ، چیئر آف برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca | 905-874-3426